



سوال

(723) جوتا بیٹھ کر پہننا چاہیے یا کھڑے ہو کر؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

جوتا بیٹھ کر پہننا چاہیے یا کھڑے ہو کر پہننا چاہیے اور کس قسم کا ہو کھڑا ہو کر پہننا چاہیے؟ محمد قاسم

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول اللہ، أما بعد!

سنن ابن ماجہ کتاب اللباس باب الانتعال قائم ح ۳۶۱۸، ح ۳۶۱۹ میں لکھا ہے: { عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقبل الرجل قائما عن ابن عمر قال: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقبل الرجل قائما } رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا ہے بیٹھ کر یا جھک کر یا لیٹ کر جوتا پہننے پھر حدیث میں کسی جوتے کی کہیں کوئی تخصیص نہیں آئی حدیث اور اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں غور فرمائیں اس حدیث کو محدث وقت شیخ البانی حفظہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ابن ماجہ میں درج فرمایا اور تعلیق مشکوٰۃ میں بھی صحیح قرار دیا ہے نیز مشہور محدث محب اللہ شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاعتصام میں شائع شدہ ہلپنے ایک مضمون میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل

جلد 01 ص 506

محدث فتویٰ